

Mat

Chapter 17

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Καὶ μεθ' ἡμέρας ἕξ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς, τὸν Πέτρον καὶ
اور بعد دنوں چھ لے-گیا وہ یسوع وہ پطرس-کو اور
[G2532](#) [G3326](#) [G2250](#) [G1803](#) [G3880](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3588](#) [G4074](#) [G2532](#)
- Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος
يعقوب اور يوحنا وہ بھائی اس-کا اور لے-گیا انہیں پر پہاڑ
[G2385](#) [G2532](#) [G2491](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#) [G2532](#) [G0399](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3735](#)
- ὕψηλόν κατ' ἰδίαν.
اونچے میں اکیلے
[G5308](#) [G2596](#) [G2398](#)

گئے۔ چڑھ پر پہاڑ اونچے کر لے ساتھ اپنے کو یوحنا اور یعقوب پطرس، صرف عیسیٰ بعد کے دن چھ

- 2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
اور شکل-بدلی سامنے ان-کے اور چمکا وہ چہرہ اس-کا
[G2532](#) [G3339](#) [G1715](#) [G0846](#) [G2532](#) [G2989](#) [G3588](#) [G4383](#) [G0846](#)
- ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς.
جیسے وہ سورج وہ اور لباس اس-کا ہو-گیا سفید جیسے وہ نور
[G5613](#) [G3588](#) [G2246](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2440](#) [G0846](#) [G1096](#) [G3022](#) [G5613](#) [G3588](#) [G5457](#)

گئے۔ ہو سفید مانند کی نور کیڑے کے اس اور لگا، چمکنے طرح کی سورج چہرہ کا اس گئی۔ بدل سامنے کے ان صورت و شکل کی اس وہاں

- 3 καὶ ἰδοὺ, ὠφθη αὐτοῖς Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας, συλλαλοῦντες μετ' αὐτοῦ.
اور دیکھو دکھائی-دیئے انہیں موسیٰ اور ایلیاہ باتیں-کرتے-ہوئے ساتھ اس-کے
[G2532](#) [G3708](#) [G3708](#) [G0846](#) [G3475](#) [G2532](#) [G2243](#) [G4814](#) [G3326](#) [G0846](#)

لگے۔ کرنے باتیں سے عیسیٰ اور ہوئے ظاہر موسیٰ اور الیاس اچانک

- 4 ἀποκριθεὶς δὲ, ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλὸν ἐστὶν ἡμᾶς
جواب-دے-کر لیکن وہ پطرس کہا کو یسوع اے-خداوند اچھا ہے ہم-کا
[G0611](#) [G1161](#) [G3588](#) [G4074](#) [G3004](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2962](#) [G2570](#) [G1510](#) [G1473](#)
- ᾧδε εἶναι. εἰ θέλεις, ποιήσω ᾧδε τρεῖς σκηνάς: σοὶ μίαν, καὶ
یہاں ہونا اگر چاہو بناؤں یہاں تین خیمے تیرے-لیے ایک اور
[G5602](#) [G1510](#) [G1487](#) [G2309](#) [G4160](#) [G5602](#) [G5140](#) [G4633](#) [G4771](#) [G1520](#) [G2532](#)
- Μωϋσεῖ μίαν, καὶ Ἠλίᾳ μίαν.
موسیٰ-کے-لیے ایک اور الیہاہ-کے-لیے ایک
[G3475](#) [G1520](#) [G2532](#) [G2243](#) [G1520](#)

ایک اور لئے کے موسیٰ ایک لئے، کے آپ ایک گا، بناؤں جھونپڑیاں تین میں تو چاہیں آپ اگر ہیں۔ یہاں ہم کہ ہے بات اچھی کتنی خداوند، اُنہا، بول پطرس لئے۔ کے الیاس

5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς; καὶ ἰδοὺ,
 ابھی اُس-کا بولتے-ہوئے دیکھو بادل روشن چھا-گیا انہیں اور دیکھو
[G2089](#) [G0846](#) [G2980](#) [G3708](#) [G3507](#) [G5460](#) [G1982](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3708](#)

φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου, ὁ
 آواز سے اُس بادل کہتی-ہوئی یہ ہے وہ میرا بیٹا وہ
[G5456](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3507](#) [G3004](#) [G3778](#) [G1510](#) [G3588](#) [G5207](#) [G1473](#) [G3588](#)

ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα; ἀκούετε αὐτοῦ!
 پیارا میں جس خوش-ہوا سنو اُس-کی
[G0027](#) [G1722](#) [G3739](#) [G2106](#) [G0191](#) [G0846](#)

خوش میں سے جس ہے، فرزند پیارا میرا [] یہ دی، سنائی آواز ایک سے میں بادل اور گیا چھا پر اُن کر آ بادل دار چمک ایک کہ تھا رہا ہی کر بات ابھی وہ
 سنو۔ [] کی اس ہوں۔

6 καὶ ἀκούσαντες, οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ
 اور سن-کر وہ شاگرد گرے پر منہ اپنے اور
[G2532](#) [G0191](#) [G3588](#) [G3101](#) [G4098](#) [G1909](#) [G4383](#) [G0846](#) [G2532](#)

ἐφοβήθησαν σφόδρα.
 ڈرے بہت
[G5399](#) [G4970](#)

گئے۔ گر منہ اوندھے کر کہا دہشت شاگرد کر سن یہ

7 καὶ προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀψάμενος αὐτῶν, εἶπεν, Ἐγέρθητε, καὶ
 اور آیا وہ یسوع اور چھو-کر انہیں کہا اُٹھو اور
[G2532](#) [G4334](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2532](#) [G0680](#) [G0846](#) [G3004](#) [G1453](#) [G2532](#)

μὴ φοβεῖσθε.
 مت ڈرو
[G3361](#) [G5399](#)

ڈرو۔ [] مت [] اُٹھو، کہا، نے اُس چھوا۔ انہیں کر آ نے عیسیٰ لیکن

8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμούς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον εἰ μὴ αὐτὸν
 اُٹھا-کر لیکن وہ آنکھیں اپنی کسی-کو-نہیں دیکھا سوائے نہیں اُسے
[G1869](#) [G1161](#) [G3588](#) [G3788](#) [G0846](#) [G3762](#) [G3708](#) [G1487](#) [G3361](#) [G0846](#)

Ἰησοῦν μόνον.
 یسوع اکیلے
[G2424](#) [G3440](#)

دیکھا۔ نہ کو کسی سوا کے عیسیٰ تو اُٹھائی نظر نے انہوں جب

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
 اور اترتے-ہوئے اُن-کے سے اُس پہاڑ حکم-دیا انہیں وہ یسوع
[G2532](#) [G2597](#) [G0846](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3735](#) [G1781](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#)

λέγων, Μηδενὶ εἶπητε τὸ ὄραμα, ἕως οὗ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐκ
 کہتے-ہوئے کسی-سے نہ-کہو وہ رؤیا جب-تک جب وہ میرا بیٹا کا آدم سے
[G3004](#) [G3367](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3705](#) [G2193](#) [G3739](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#) [G1537](#)

νεκρῶν ἐγερθῆ.
 مردوں جی-اُٹھے
[G3498](#) [G1453](#)

جی سے میں مُردوں آدم ابن کہ تک جب بتانا نہ کو کسی تک وقت اُس سے بے دیکھا نے تم کچھ [] جو دیا، حکم انہیں نے عیسیٰ تو لگے اُترنے سے پہاڑ وہ
 اُٹھے۔ [] نہ

10 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταί, λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς
اور پوچھا اُس سے وہ شاگردوں کہتے ہوئے کیوں تو وہ فقہ
G2532 G1905 G0846 G3588 G3101 G3004 G5101 G3767 G3588 G1122

λέγουσιν ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἔλθεῖν πρῶτον?
کہتے ہیں کہ ایلیاہ سے ضرور ہے انا پہلے
G3004 G3754 G2243 G1163 G2064 G4412

ہے؟ ضروری انا کا ایلیاہ سے آمد کی مسیح کہ ہیں کہتے کیوں علما کے شریعت پوچھا، سے اُس نے شاگردوں

11 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν, Ἡλίας μὲν ἔρχεται, καὶ ἀποκαταστήσει πάντα.
وہ لیکن جواب دے کر کہا ایلیاہ تو آتا ہے اور بحال کرے گا سب
G3588 G1161 G0611 G3004 G2243 G3303 G2064 G2532 G0600 G3956

گا۔ آئے لئے کے کرنے بحال کچھ سب ضرور تو ایلیاہ دیا، جواب نے عیسیٰ

12 λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἡλίας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν, ἀλλὰ
کہتا ہوں لیکن تم سے کہ ایلیاہ پہلے ہی آچکا اور نہیں پہچانا اُسے بلکہ
G3004 G1161 G4771 G3754 G2243 G2235 G2064 G2532 G3756 G1921 G0846 G0235

ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
کیا میں اُس کے ساتھ جو چاہا ایسے اور وہ بیٹا کا آدم
G4160 G1722 G0846 G3745 G2309 G3779 G2532 G3588 G5207 G3588 G0444

μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν.
آن سے دکھ اٹھانا آنے والا ہے
G3195 G3958 G5259 G0846

دکھ ہاتھوں کے اُن بھی آدم ابن طرح اسی کیا۔ چاہا جو ساتھ کے اُس بلکہ پہچانا نہیں اُسے نے اُنہوں اور ہے چکا آ تو ایلیاہ کہ ہوں بتاتا کو تم میں لیکن
گا۔ اٹھائے

13 τότε συνῆκαν οἱ μαθηταί ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν
تب سمجھے وہ شاگرد کہ یوحنا بارے میں وہ بیتسمہ دینے والا کہا
G5119 G4920 G3588 G3101 G3754 G4012 G2491 G3588 G0910 G3004

αὐτοῖς.
اُن سے
G0846

تھا۔ ربا کر بات کی والے دینے بیتسمہ یحییٰ ساتھ کے اُن وہ کہ آئی سمجھ کو شاگردوں پھر

14 Καὶ ἐλθόντων πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν
اور آئے پاس اُس بھیڑ آیا اُس کے پاس آدمی گھٹنے ٹیکتے ہوئے
G2532 G2064 G4314 G3588 G3793 G4334 G0846 G0444 G1120

αὐτὸν,
اُس کے سامنے
G0846

ٹیکے گھٹنے کر آ سامنے کے عیسیٰ نے آدمی ایک تو پہنچے پاس کے ہجوم نیچے وہ جب

15 καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς
اور کہتے ہوئے اے خداوند رحم کر میرے وہ بیٹے پر کیونکہ مرگی کا مارا ہے اور بُری طرح
G2532 G3004 G2962 G1653 G1473 G3588 G5207 G3754 G4583 G2532 G2560

πάσχει; πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.
دکھ اٹھاتا ہے اکثر کیونکہ گرتا ہے میں اُس آگ اور اکثر میں اُس پانی
G3958 G4178 G1063 G4098 G1519 G3588 G4442 G2532 G4178 G1519 G3588 G5204

ہے۔ جاتا گر میں پانی یا آگ وہ بار کئی ہے۔ پڑتی اٹھانی تکلیف شدید اُسے اور ہیں پڑتے دورے کے مرگی اُسے کریں، رحم پر بیٹے میرے خداوند، کہا، اور

16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν
اور لایا اُسے پاس کے شاگردوں کے تیرے اور نہیں سکے اُسے
[G2532](#) [G4374](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3101](#) [G4771](#) [G2532](#) [G3756](#) [G1410](#) [G0846](#)

θεραπεῦσαι.

شفا-دینا

[G2323](#)

سکے۔ دے نہ شفا اُسے وہ لیکن تھا، لایا پاس کے شاگردوں کے آپ اُسے میں

17 ἀποκριθεὶς δὲ, ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ὧ γενεὰ ἄπιστος καὶ δειστραμμένη,
جواب-دے-کر لیکن وہ یسوع کہا اے نسل بے-ایمان اور اور بگڑی-بوئی
[G0611](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2424](#) [G3004](#) [G5599](#) [G1074](#) [G0571](#) [G2532](#) [G1294](#)

ἕως πότε μεθ' ὑμῶν ἔσομαι? ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν? φέρετέ μοι
میرے-پاس جب-تک کب-تک ساتھ تمہارے رہوں-گا کب-تک کب-تک برداشت-کروں-گا تمہارے لاؤ میرے-پاس
[G2193](#) [G4219](#) [G3326](#) [G4771](#) [G1510](#) [G2193](#) [G4219](#) [G0430](#) [G4771](#) [G5342](#) [G1473](#)

αὐτὸν ὧδε.

اُسے یہاں

[G0846](#) [G5602](#)

آؤ۔ اے پاس میرے کو لڑکے کروں؟ برداشت تمہیں تک کب رہوں، ساتھ تمہارے تک کب میں نسل! ٹیڑھی اور خالی سے ایمان دیا، جواب نے عیسیٰ

18 καὶ ἐπειμήσεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξήλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον,
اور ڈانٹا اُسے وہ یسوع اور نکلا اور اُس سے وہ بدروح
[G2532](#) [G2008](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2532](#) [G1831](#) [G0575](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1140](#)

καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
اور شفا-پایا وہ لڑکا سے اُس گھڑی اُس
[G2532](#) [G2323](#) [G3588](#) [G3816](#) [G0575](#) [G3588](#) [G5610](#) [G1565](#)

گئی۔ مل شفا اُسے لمحے اسی گئی۔ نکل سے میں لڑکے وہ تو ڈانٹا، کو بدروح نے عیسیٰ

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν, εἶπον, Διὰ τί
تب آ-کر وہ شاگرد پاس کے یسوع میں اکیلے کہا کیوں کیا
[G5119](#) [G4334](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3588](#) [G2424](#) [G2596](#) [G2398](#) [G3004](#) [G1223](#) [G5101](#)

ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό?
ہم نہیں سکے نکالنا اُسے
[G1473](#) [G3756](#) [G1410](#) [G1544](#) [G0846](#)

سکے؟ نکال نہ کیوں کو بدروح ہم پوچھا، کر آپاس کے عیسیٰ میں علیحدگی نے شاگردوں میں بعد

20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ, λέγω
وہ لیکن بے کہتا-ہے اُن-سے وجہ-سے اُس کم-ایمانی تمہاری آمین کیونکہ کہتا-ہوں
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G0846](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3640](#) [G4771](#) [G0281](#) [G1063](#) [G3004](#)

ὕμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ,
تم-سے اگر رکھو ایمان جیسا دانہ رائی-کا کہو-گے کو پہاڑ اِس
[G4771](#) [G1437](#) [G2192](#) [G4102](#) [G5613](#) [G2848](#) [G4615](#) [G2046](#) [G3588](#) [G3735](#) [G3778](#)

Μετὰβα ἔνθεν ἐκεῖ! καὶ μεταβήσεται; καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.
بٹ سے یہاں-سے وہاں اور بٹ-جائے-گا اور اور کچھ-نہیں ناممکن-ہو-گا تمہارے-لیے
[G3327](#) [G1759](#) [G1563](#) [G2532](#) [G3327](#) [G2532](#) [G3762](#) [G0101](#) [G4771](#)

کہہ کو پہاڑ اِس تم پھر تو ہو بھی برابر کے دانے کے رائی ایمان تمہارا اگر ہوں، بتاتا سچ تمہیں میں سے۔ سبب کے کمی کی ایمان اپنے دیا، جواب نے اُس
گا۔ ہو نہیں ناممکن بھی کچھ لئے تمہارے اور گا۔ جائے کھسک وہ تو جا، کھسک اُدھر سے اُدھر گے، سکو

- 21 <Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ
 اور لیکن-یہ اور یہ قسم نہیں نکلتی-بے سوائے نہیں میں دعا اور
[G3778](#) [G1161](#) [G3588](#) [G1085](#) [G3756](#) [G1607](#) [G1487](#) [G3361](#) [G1722](#) [G4335](#) [G2532](#)

νηστεία>.

روزے
[G3521](#)

نکلتی۔ [نہیں بغیر کے روزے اور دعا بدروح کی قسم اس] لیکن

- 22 Συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
 جمع-ہوتے-ہوئے لیکن ان-کے میں اس گلیل کہا ان-سے وہ یسوع
[G4962](#) [G1161](#) [G0846](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1056](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#)

Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων,
 آنے-والا-یہ وہ بیٹا کا آدم حوالے-کیا-جانا میں ہاتھوں کے آدمیوں-کے
[G3195](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0444](#) [G3860](#) [G1519](#) [G5495](#) [G0444](#)

گا۔ جائے دیا کر حوالے کے آدمیوں کو آدم ابن بتایا، انہیں نے عیسیٰ تو ہوئے جمع میں گلیل وہ جب

- 23 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν; καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ
 اور ماریں-گے اُسے اور کو تیسرے دن جی-اٹھے-گا اور
[G2532](#) [G0615](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5154](#) [G2250](#) [G1453](#) [G2532](#)

ἐλυπήθησαν σφόδρα.

غمگین-ہوئے بہت
[G3076](#) [G4970](#)

ہوئے۔ غمگین نہایت شاگرد کر سن یہ گا۔ [اٹھے جی وہ بعد کے دن تین لیکن گے، کریں قتل اُسے وہ

- 24 Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καφαρναοὺμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα
 آنے لیکن ان-کے میں کفرناحوم آئے وہ وہ دو-درہم
[G2064](#) [G1161](#) [G0846](#) [G1519](#) [G2584](#) [G4334](#) [G3588](#) [G3588](#) [G1323](#)

λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπαν, Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ
 وصول-کرنے-والے پاس پطرس-کے اور کہا وہ استاد تمہارا نہیں دیتا-ہے وہ
[G2983](#) [G3588](#) [G4074](#) [G2532](#) [G3004](#) [G3588](#) [G1320](#) [G4771](#) [G3756](#) [G5055](#) [G3588](#)

δίδραχμα?

دو-درہم
[G1323](#)

کرتا؟ [نہیں ادا ٹیکس کا مقدس بیت استاد کا آپ] کیا لگے، پوچھنے کر آ پاس کے پطرس والے کرنے جمع ٹیکس کا مقدس بیت تو پہنچے کفرناحوم وہ

- 25 λέγει, Naί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτόν ὁ Ἰησοῦς,
 کہتا-ہے ہاں اور آنے میں اُس گھر پہلے-ہی-کہا اُس-سے وہ یسوع
[G3004](#) [G3483](#) [G2532](#) [G2064](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3614](#) [G4399](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2424](#)

λέγων, τί σοι δοκεῖ, Σίμων? οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ἀπὸ τίνων
 کہتے-ہوئے کیا تجھے لگتا-ہے شمعون وہ بادشاہ کی زمین سے کن-سے
[G3004](#) [G5101](#) [G4771](#) [G1380](#) [G4613](#) [G3588](#) [G0935](#) [G3588](#) [G1093](#) [G0575](#) [G5101](#)

λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον? ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν
 لیتے-ہیں محصول یا ٹیکس سے اُن سے بیٹوں اپنے یا سے اُن سے
[G2983](#) [G5056](#) [G2228](#) [G2778](#) [G0575](#) [G3588](#) [G5207](#) [G0846](#) [G2228](#) [G0575](#) [G3588](#)

ἀλλοτρίων?

پرانیوں
[G0245](#)

لیتے ٹیکس اور ڈیوٹی سے کن بادشاہ کے دنیا شمعون، بے خیال [کیا لگا، بولنے ہی پہلے عیسیٰ تو آیا میں گھر وہ دیا۔ جواب نے پطرس ہے،] کرتا وہ [جی، سے] اجنبیوں یا سے فرزندوں اپنے ہیں،

26	εἰπόντος	δέ,	Ἄπο	τῶν	ἀλλοτρίων,	ἔφη	αὐτῷ	ὁ	Ἰησοῦς,	ἴΑρα ἴγε
	کہنے	لیکن	سے	اُن	پرانیوں	کہا	اُسے	وہ	یسوع	تو-پھر
	G3004	G1161	G0575	G3588	G0245	G5346	G0846	G3588	G2424	G0686
	ἐλεύθεροί	εἰσιν	οἱ	υἱοί.						
	آزاد	ہیں	وہ	بیٹے						
	G1658	G1510	G3588	G5207						

ہوئے۔ بری سے دینے ٹیکس فرزند کے اُن پھر تو بولا عیسیٰ سے۔ اجنبیوں دیا، جواب نے پطرس

27	ἵνα	δὲ	μὴ	σκανδαλίσωμεν	αὐτοῦς,	πορευθεῖς	εἰς	θάλασσαν,	βάλε		
	تاکہ	لیکن	نہیں	ٹھوکر-کھلائیں	انہیں	جا-کر	میں	جھیل	ڈال		
	G2443	G1161	G3361	G4624	G0846	G4198	G1519	G2281	G0906		
	ἄγκιστρον,	καὶ	τὸν	ἀναβάнта	πρῶτον	ἰχθὺν	ἄρον,	καὶ	ἀνοιξας	τὸ	στόμα
	کانٹا	اور	وہ	اُٹھنے-والی	پہلی	مچھلی	اُنھا	اور	کھول-کر	وہ	منہ
	G0044	G2532	G3588	G0305	G4412	G2486	G0142	G2532	G0455	G3588	G4750
	αὐτοῦ,	εὐρήσεις	στατήρα;	ἐκεῖνον	λαβὼν,	δοῦς	αὐτοῖς	ἀντὶ	ἐμοῦ	καὶ	σοῦ.
	اُس-کا	پائے-گا	سکہ	وہ	لے-کر	دے	انہیں	بدلے-میں	میرے	اور	تیرے
	G0846	G2147	G4715	G1565	G2983	G1325	G0846	G0473	G1473	G2532	G4771

سے میں اُس تو کھولنا منہ کا اُس گا پکڑے پہلے تو مچھلی جو دینا۔ ڈال ڈوری میں اُس کر جا پر جھیل لئے اس چاہتے۔ کرنا نہیں ناراض انہیں ہم لیکن دے۔ کر ادا لئے اپنے اور میرے انہیں کر لے اُسے گا۔ نکلے سیکہ کا چاندی